

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات دو حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول اور حصہ دوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی آٹھ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 5 نمبرات مختص ہیں۔ (8 x 5 = 40 Marks)

2. حصہ دوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کا جواب تقریباً ڈھانی سو (250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (10 x 3 = 30 Marks)

حصہ - اول

1. User Interface کو کیا مراد ہے؟ کیوں Operating System سے کیا مراد ہے؟ کیا جاتا ہے؟ Note functions کے operating system پر کھٹے۔

2. Process کے states کو کیا مراد ہے؟ diagram کی مدد سے بتائیے۔

3. Scheduling کے اقسام کو بیان کریں۔

4. Dead lock prevention کو وضاحت کریں۔

5. file allocation methods کے بارے میں لکھیں۔

6. Directory کے کیا مراد ہے؟ پر کیا operations کر سکتے ہیں۔

7. file allocation methods کے کیا مراد ہے؟ file کے بارے میں لکھیں۔

8. Protection اور Security میں فرق (differences) بتائیے۔

9. segmentation اور fragmentation میں فرق بتائیے۔

حصہ - دوم

10. History کے operating system کو Draw کیجیا اور Structure کے Operating System تفصیل سے بتائیے۔

11. Process Communication Techniques کو تفصیل سے بتائیے۔

12. Page Replacement Algorithms کو تفصیل سے بتائیے۔

13. Dead lock کے کیا مراد ہے۔ Dead lock کو تفصیل سے بتائیے۔

14. free space management کو تفصیل سے بتائیے۔